

تعارف و تصدیق

از جناب اختر زہری

ماہر نقاد سی/روم

علم حدیث

مؤلف: مولانا اشفاق الرحمن کاندھلوی

ناشر: بکیت خانہ نشان اسلام - اردو بازار - راحت مارکیٹ لاہور - صفحات ۲۳۸ - قیمت ۱۵ روپے
 عہدِ غلامی میں دینی سطح پر جو فتنے برپا ہوئے ان میں سے ایک انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ سرے سے احادیث نبوی کی
 حجیت سے انکار کر دیا گیا۔ سر سید احمد خان اوطان کے زفقار نے اپنی دینی تحریروں میں یہی رویہ اختیار کیا۔ ان حدیث
 پسند اہل قلم کے ساتھ بعض پرانے انداز کے افراد بھی اس غلطی میں مبتلا ہو گئے کہ حدیث کی ضرورت نہیں۔ مولوی عبداللہ
 چکلاہوی اور مولوی احمد دین امرتسری اسی قبیل کے لوگوں میں شامل تھے۔
 ملائے حق نے ان لوگوں کی باطل تاویلات اور غلط نقطہ نظر پر تنقید کی۔ اور امت کو اسلاف کی راہ پر قائم رکھنے
 میں کامیابی حاصل کی۔

۱۹۵۰ء اور ۱۹۶۰ء کے درمیان میں عمر میں "حجیت حدیث" کے موضوع پر سب سے زیادہ لکھا گیا۔ اسی دور میں مولانا اشفاق الرحمن

کاندھلوی مرحوم نے فن حدیث، ضرورت حدیث، تاریخ حدیث اور روایان حدیث پر مضامین لکھے۔ ان مضامین کو جناب مؤلف
 مرحوم کے صاحبزادے ساجد الرحمن صدیقی صاحب نے یک جا کیا ہے۔

مولانا اشفاق الرحمن مرحوم ڈیڑھ حدیث پر گہری نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے جامع ترمذی کی بسوسو شرح "اللب الشذبی"
 کے نام سے لکھی جس کا کچھ حصہ اشفاق نے پیر ہوا ہے۔ زیر تبصرہ کتاب میں بھی ان کے بحر علمی کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔

قومی اسمبلی میں اسلام کا معرکہ برپا ایک تبصرہ

جناب ماہر نقاد سی مرحوم کے قلم کے شیخ الحدیث مولانا عبدالحق منگلہ کی کتاب قومی اسمبلی میں اسلام کا معرکہ پر مفصل

تبصرہ کا کچھ حصہ پیش خدمت ہے۔ مرحوم کے حقیقت شناس تبصروں میں غالباً یہ آخری تبصرہ ہے جو ان کے وصال